


الصلوة حرام
والنحو حرام

اختیاراتِ مصطفیٰ

احادیث تبریز



محدث کبیر، نبیر، صد الشریعہ حضرت علامہ
ضیاء المُصطفیٰ
العاشر
دانکاری

ادارہ معارف شاہزادہ احمد بن علی شعبانیہ



اخبار المصطفى


صلوات الله علیه وسلم
صلوات الله علیه وسلم



محدث كريمة نوشين حسنين المصطفى امجد تقادمي
صاحب المحبة وحسن العادة

اداره معاف لعمانيه الها

د



الختارات المصطفى



مكتبة مصرية ضمن المصطفى قادري طنطا
مكتبة مصرية ضمن المصطفى قادري طنطا

ادارة عارف التمازجية للهبو

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّذِي أَبْدَعَ الْأَفْلَاكَ وَالْأَرْضِينَ وَأَشَهَدَ
أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَهُوَ الْحُقُوقُ الْمُبِينُ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمُتَّيِّنُ
وَأَشَهَدَ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ الَّذِي أَرْسَلَهُ رَحْمَةً
لِلْعَالَمِينَ الَّذِي أَفَاضَ عَلَيْنَا أَنُوَارَ الْهُدَايَا وَالْحَقِّ وَالْيَقِينَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَعَلَى آلِهِ وَآصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَعَلَيْنَا مَعْهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

أَمَّا بَعْدُ:

فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ . بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
أَغْنِهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ . (۱)
صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَآصْحَابِهِ
أَفْضُلُ الصَّلَاةُ وَأَكْمَلُ التَّسْلِيمُ.

ایک بار نہایت عقیدت و احترام کیسا تھر رسول اکرم انور مجسم ہادی
سلی رحمت کل سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت پناہ میں
وروپا کا نذر ائمہ محبت پیش کریں۔

اللّٰمَ صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلَّمَ صَلَوةً وَسَلَاماً عَلَيْكَ يَا
رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ! آج مجھے رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات و تصرفات پر گفتگو کرنے کا موقع دیا گیا ہے

(۱) پارہ ۲۰ ارکو ۱۲ سورہ قوبہ

بیہان کرم شیخ الاسلام مسلمین نبیرہ علیحضرت حضورتاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا
مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری دامت برکاتہم العالیہ

نام کتاب	اختیارات مصطفیٰ علیہ السلام
تصنیف	محمد کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری دامت برکاتہم العالیہ
س ان اشاعت	ماہ مارچ 2006ء صفر المظفر 1426ھ
صفحات	32
شرف اشاعت	ادارہ معارف نعمانیہ لاہور / رضوی فاؤنڈیشن پاکستان
تعداد	1100
ہدیہ	دعائے خیر بحق معاونین
نوٹ:	بیرون جات کے شاگردن مطالعہ 12 روپے کے ڈاک ٹکٹ ارسال فرما کر طلب فرمائیں۔

ملنے کا پتہ

ادارہ معارف نعمانیہ / رضوی فاؤنڈیشن پاکستان
323 مرکزی جامع مسجد حنفیہ غوثیہ - شاد باغ لاہور
ایمیل ایڈریس rizvifoundation@hotmail.com

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات و تصرفات، ایک ایسا موضوع ہے جسکے اوپر عمر رسلت سے لیکر عصر حاضر تک امت اسلامیہ کا اتفاق رہا ہے لیکن آج بچھ لوگوں نے اپنے ذہن و فکر سے جب یہ عقیدہ وضع کر لیا کہ ایک نبی عام انسان کے جیسا ہوتا ہے۔ تو اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عام انسانوں جیسے اختیارات اور انہیں جیسی قوت و تصرفات کا اعلان کر دیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن عظیم میں اور احادیث نبویہ میں اور اسلاف کے عقائد و فکر میں دلائل کا ایک سیل روایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے خلیفہ اعظم ہیں اور اسکے نائب مطلق ہیں اور یہ خلافت و نیابت اسی وقت اپنے حق کو پہنچ سکتی ہے جب کہ رب قدیر جل جلالہ کے صفات کا بھرپور جلوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نمایاں ہو تو یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ عقیدہ صرف بریلی کی پیداوار ہے۔ بلکہ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اس عقیدے کی تعلیم ہمیں قرآن نے دی۔ اور اس عقیدے کی تلقین رسول اکرم ﷺ نے ہمکو کی۔ اور اس عقیدے پر قیام واستحکام کا جو ایک سلسلہ لامتناہی ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ وہ صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف سے اب تک چلا آرہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج احادیث نبویہ کی روشنی میں اس سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو کروں۔ لیکن اس گفتگو سے پہلے میرا خیال یہ ہیکہ ذہنوں کو قریب کرنے کیلئے آپ کے تھوڑے سے حالات کا جائزہ لینے کیلئے ایک تمدید پیش کر دوں توبات بہت جلد ذہن میں اتر جائے گی پہلے ایک بار درود پاک پڑھیں تاکہ ہماری اور آپ کی گفتگو آگے بڑھ سکے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک و سلام.....

عزیزان ملت! ہم میں سے کون ایسا نہیں ہے کہ جسکو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی طور پر قوتیں اور تو انہیاں عطا نہ کیں؟ اور ان قوتوں کا اطمینان بظاہر خود ہماری ذات سے نہ ہوتا ہو جو مثلًا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں ایک قوت رکھی ہے جس سے ہم کسی گرتے ہوئے کام انجام بخیں بن جاتے ہیں۔ اور اس قوت سے ہم کسی کا گلا بھی دبادیتے ہیں۔ اس قوت سے ہم دشمنوں کی بھی کرتے ہیں۔ اور اس قوت سے ظلم کے پہاڑ بھی توڑتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زبان میں ایک قوت رکھی ہے جس سے امر بالمعروف نبی عن المعرفہ کا کام لیتے ہیں۔ اور اسی سے ہم لوگوں کو گالیاں بھی دے سکتے ہیں۔ اور دعائیں بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے باہر بھی کچھ طاقت رکھی ہے ان طاقتوں کا ایک بہت ہی عظیم سلسلہ روایاں دوں ہے آپ اگر غور فرمائیں تو کیا ہمارے گرد دلوں کا انبار نہیں ہوتا اور وہ دو لئیں ہماری قوت بنا کرتی ہیں۔ ہماری عزت اور شوکت بنا کرتی ہیں۔ مثلاً ہماری جیب میں اگر پیسے ہیں تو ایک غریب ایک مسکین اور ایک یتیم کی مدد بھی اس سے کر سکتے ہیں۔ اور جیب میں پیسے ہیں تو ہم اس سے جو ابھی کھیل سکتے ہیں۔ سینما بازی بھی کر سکتے ہیں سو دکے کار و بار میں بھی اسکو لگا سکتے ہیں۔ جیب میں پیسے ہیں تو مظلوموں کی دشمنی بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ پیسے اور یہ دھن دولت بھی انسان کی ایک قوت ہیں یہ ساری قوتیں رکھتے ہوئے بھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا دین کے بارے میں کچھ اختیار رکھتے ہیں؟ آپ اپنی قوتوں سے دنیا کے معاملے میں بہت سارے کام انجام دے سکتے ہیں۔ اپنی قوتوں کی وجہ سے آپ لوگوں کی دشمنی بھی کر سکتے ہیں کسی کے گھر میں آگ بھی لگا سکتے ہیں۔

کسی کے جلتے ہوئے خرمن کی آگ مچھا سکتے ہیں۔ مگر آپ مجھ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اپنی کسی قوت سے دین کے اندر بھی کوئی تصرف کر سکتے ہیں؟ کسی حلال کو حرام قرار دیدیں۔ کسی متحب کو فرض قرار دیدیں۔ کسی فرض کو جائز کے درجے میں رکھ دیدیں۔ یہ آپ کے اختیار سے باہر ہے۔ دنیا کا بڑا سے بڑا طاقتو ر انسان بھی دنیاوی معاملات میں ٹھکرنا ہی طاقت کیوں نہ رکھتا ہو۔ مگر دین کے معاملے میں ہے بس اور مجبور نظر آتا ہے مگر ہم کو یہ کہہ لینے دیا جائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیاوی اختیارات کیا ہوں گے۔ وہ تو بعد میں دیکھوں گا دین میں وہ اختیارات ہیں کہ قرآن فرماتا ہے۔ **۱۷۸۰ مَا أَنْكُمُ الرَّسُولُونَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنِهِ فَإِنَّهُوَا**۔ (۱)

رسول جو دیدیں وہ لے لو رسول جس چیز سے روک دیں بازاً جاؤ، نبی کے وہ اختیارات ہیں کہ اللہ نے اس طرح سے نہ فرمایا کہ رسول کے روکنے اور رسول کے حکم دینے کا کوئی اعتبار نہیں ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب میری طرف سے میرا حوالہ دے کر میرا حکم دیں تو مانا جائیگا۔ بلکہ ڈائرکٹ اس طرح کی بات کی گئی کہ رسول جو دیدیں وہ لے لو اور جس سے روک دیں اس سے بازاً جاؤ۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو دین کے معاملے میں اپنا خلیفہ مطلق بنایا اپنا نائب اعظم بنادیا۔ اب رسول جس چیز کو چاہیں حلال کریں اور جس چیز کو چاہیں حرام کریں۔ یہی وجہ ہے کہ خواری شریف و مسلم شریف اور حدیث کی دوسری کتابوں میں صراحت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر دین میں اختیارات کا

(۱) پارہ ۲۸ سورہ حشر

اعلان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کے کو حرم بنایا ہے۔ **۱۷۸۱ لَا يَعْصُدُ شَوْكُهَا وَ لَا يَنْفَرُ صَيْدُهَا وَ لَا يُلْتَقَطُ لَقْطُتُهَا إِلَّا مِنْ عَرَفَهَا وَ لَا يُخْتَلَى خَلَالَهَا فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا إِذْخُرْ فَإِنَّهُ لَقِينُهُمْ وَ لَبِيُّوْتُهُمْ فَقَالَ إِلَّا إِذْخُرْ** (۱) اللہ نے مکہ کو حرم بنایا ہے کہ یہاں کا کوئی کائنات بھی نہ توڑا جائے یہاں کے درخت نہ کاٹ جائیں اور یہاں کی گھاس نہ اکھیڑی جائے تو حضرت سیدنا عباس بن عبدالمطلب یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کھڑے ہو گئے عرض کرتے ہیں۔ **۱۷۸۲ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا إِذْخُرْ فَإِنَّهُ لَبِيُّوْتُنَا وَ لِقَبُورُنَا وَ لِصَاغَتِنَا** یہ رسول اللہ اذخر گھاس کاٹنے کی اجازت دیدی جائے۔ اسلئے کہ وہ ہمارے گھروں کے چھپر بنانے کے کام آتی ہے قبروں میں جب مردوں کو لٹایا جاتا ہے تو تختہ پر اس کو لگایا جاتا ہے۔ اور جب کوئی سونے کا کاروبار کرنے والا سارا اپنا سونا پکھلاتا ہے تو اس میں استعمال کرتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسکی اجازت دیدی جائے۔ میرے آقا نے فرمایا **۱۷۸۳ إِلَّا إِذْخُرْ إِلَّا إِذْخُرْ** ہاں اجازت ہے اذخر گھاس کی اذخر گھاس کاٹنے کی اجازت ہے۔

غور فرمائیے کہ ایک طرف تو میرے آقا نے یہ فرمایا تھا کہ کوئی کائنات یہاں کاٹنے توڑا جائے، کوئی درخت نہ کاٹا جائے، کوئی گھاس نہ اکھیڑی جائے، گویا ہر خود رو درخت گھاس کٹیا لو اور غیرہ کا شام حرام فرمادیا مگر دوسرا طرف جب حضرت عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اذخر گھاس کاٹنے کو حلال کرنے کی درخواست کی تو میرے آقا نے یہ نہ کہا کہ یہاں پر میرا اختیار سلب ہو گیا۔ میرا کوئی اختیار کام نہیں کرتا اللہ کا یہی حکم ہے۔ اسی نے کے کو حرم بنایا ہے۔ وہ اگر جائز کرے گا تو جائز ہو گا۔ ورنہ نہیں بلکہ میرے آقا نے فرمایا

(۱) خاتمی جلد اول ص ۲۱۶ مسلم جلد اول ص ۲۲۹-۲۳۸ (۲) ابو داؤد ص ۲۷ باب تحریم کہہ

جاوہر خرگھاس کاٹنے کی اجازت ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آگیا کہ میرے آقا رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حلال اور حرام کے بارے میں یہ اختیار دیدیا ہے۔ کہ جس چیز کو چاہیں حلال کریں اور جس چیز کو چاہیں حرام فرمادیں۔ پڑھئے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا.....

پھر آپ آگے بڑھیں ایک موقع پر میرے آقار رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کا اعلان کیا۔ مکحونہ شریف کتاب manusak، سلم شریف کتاب الحج اور نسانی شریف کی حدیث آپ ملاحظہ فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا یا ایہا النّاسُ اَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج فرض ہے یہ اعلان ہوا تو رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحافی حضرت اقرع ابن حابس تیسی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ "أَفِي كُلِّ عَالَمٍ" (۱) یا رسول اللہ کیا حج ہر سال کرنا پڑے گا؟

جیسے ہر سال ہمیں زکوہ دینی پڑتی ہے ہر سال ہمیں قربانی کرنی ہوتی ہے کیا یا رسول اللہ اسی طرح سے حج بھی ہر سال کرنا پڑے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ "لَوْ قُلْتُمْ نَعَمْ لَوْ جَبَتْ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَمَا اسْتَطَعْتُمْ" (۲) اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں تو ہر سال کیلئے فرض ہو جاتا۔ اور تم طاقت نہیں رکھ پاتے کہ ہر سال اس حج کو ادا کر سکو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ میرے سر کار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک طرف تو یہ

(۱) مکحونہ شریف ص ۲۲۱ فصل ہائی کتاب manusak و سلم شریف جلد اول ص ۳۳۲

(۲) سلم شریف جلد اول ص ۳۳۲ تکاب الحج

اعلان فرمادیں کہ اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی فرمادیں کہ تم نے ہر سال کے حج کی فرضیت کا سوال کیا ہے تو اگر میں ہاں کھدوں تو ہر سال فرض ہو جائے گا، اسکا نتیجہ یہ نکلا کہ اگرچہ حج کو اللہ نے فرض کیا ہے مگر اس کی فرضیت کس انداز کی ہو گی ہر سال کیلئے رہے گی یا زندگی میں ایک سال کیلئے رہے گی یہ اختیار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کر دیا ہے۔ اسلئے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں کھدوں ہاں تو ہر سال فرض ہو جاتا یہ نہیں فرمادیں کہ اللہ نے جیسا فرض کیا ہے ویسا ہی فرض رہے گا اس نے ایک سال کا فرض کیا ہے یا ہر سال کا فرض کیا ہے، اسلئے ویسا ہی رہے گا بلکہ اپنی بات کی طرف اشارہ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے دین کے اس مسئلے میں محققو صاحب اختیار بنایا ہے، اس طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیارات کو دیکھنا چاہیں تو ایک لمبی فہرست نظر آئے گی۔

میں یہاں اجمالاً چند باتوں کو ذکر کرنا چاہتا ہوں یہ دو حصہ بیش میں نے آپ کے سامنے ذکر کیں انھیں ذکر کر کے یہ میں نے واضح کر دیا کہ ان حدیثوں میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری امت کیلئے ایک آسانی اپنی طرف سے عطا فرمائی مگر میں آپکو یہ بھی بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا ہی اختیار نہ دیا تھا کہ حکم میں جو چاہیں چھوٹ دید یہاں میں فرضیت کا حکم لگادیں تو یہ ساری امت کیلئے برادر ہو اکر یا بلکہ میرے سر کار کو یہ بھی اختیار ہے کہ ایک امتی کے لئے ایک حکم اور دوسرے کیلئے الگ حکم بھی رکھیں اس شان کی خصوصیت میرے پیارے نبی کو حاصل

ہے، اور ایسا اس لئے ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دین میں مکمل با اختیار بنا کر بھیجا تھا جنچہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث مختاری، مسلم اور صحابہ کتابوں میں پائیے گافرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کر خطبہ دیا، خطبے میں فرمایا جن لوگوں نے ہمارے طریقے پر نماز پڑھ کر نماز کے بعد قربانی کی تو اسکی قربانی ٹھیک ٹھیک ہو گئی **فَقَدْ تَمَّ نُسْكَهُ وَأَصَابَ سَنَةَ الْمُسْلِمِينَ**^(۱) اور فرمایا کہ جس شخص نے پہلے قربانی کر دی اور بعد میں نماز پڑھی **تِلْكَ شَأْةُ لَحْمٍ**^(۲) وہ گوشت کھانے کی ایک بحری ہو گئی قربانی نہ ہو سکی حضرت سیدنا ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہو گئے۔

عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آج کھانے پینے کا دن ہے اللہ کی طرف سے ہم بندوں کی مہمان نوازی کا دن ہے اسلئے میں نے پہلے ہی اپنی قربانی کر دی اور میں نے اپنے بھوکے پڑو سیوں کو بھی گوشت کھلادیا اور اپنے گھر میں بال بخوبی کھلادیا اور خود بھی کھا کر کے نماز پڑھنے کیلئے آرہا ہوں۔ میرے سر کار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں **تِلْكَ شَأْةُ لَحْمٍ**^(۳) اے ابو بردہ ابن نیار تمہاری قربانی نہ ہوئی وہ گوشت کھانے کی ایک بحری ہو گئی۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تو میرے پاس قربانی کے لاکن کوئی جانور نہیں ایک بحری کا چھ مینے کاچھ ہے موٹا اور فربہ ہے مگر یا رسول اللہ صرف چھ مینے کاچھ ہے اب میں کیا کروں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **فَضَّلَّ بِهَا وَلَا تَجْزِي جُذْعَةً عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ**^(۴) جاؤ تم اسکی قربانی کر دو

(۱) مخاری جلد ثانی متاب الاشباح ص ۸۲۲ (۲) مسلم جلد ثانی ص ۱۵۳ اکتاب الانعام

(۳) نسائی جلد ثانی ص ۲۰۳ و مسلم شریف جلد ثانی ص ۱۵۳

تمہاری قربانی تو اس سے ہو جائے گی اور کوئی دوسرا شخص اس عمر کے جانور کی قربانی کرے تو نہ ہو گی سبحان اللہ.....

ذراد یکھون تو سکی میرے آقا جب نواز نے پر آتے ہیں تو اپنے ایک صحابی کو جو سب سے اوپرے درجے کے صحابی نہیں مگر جب ان کو نواز نے پر آگئے تو یہ خصوصیت عطا کر دی کہ چھ مینے کے بھری کے پچھے کو آپ قربانی کرنا چاہو تو کرلو مگر دوسرا کوئی کرے گا تو قربانی نہ ہو گی اس سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ نے میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے معاملے میں وہ اختیار عطا کیا ہے کہ اگر چاہیں تو ایک حکم اپنے ایک امتی کیلئے خاص کر دیں اور ساری امت کے لئے الگ طرح کا حکم رکھیں اسی لئے چھ مینے کے بھری کے پچھے کی اگر کوئی آدمی قربانی کرے تو اسکی قربانی نہ ہو گی امت کا کتنا ہی بڑا بورگ کیوں نہ ہو مگر یہ خصوصیت میرے آقانے ابو بردہ کو عطا فرمادی، ذرا سوچو دین کے معاملے میں جب ہمارے مصطفیٰ کا یہ اختیار ہے تو دنیا کے معاملے میں کتنا بڑا اختیار ہو گا اسلئے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں تصرف کرنے کے معاملے میں ساری دنیا کو مغلون ج اور بے اختیار کر کے یہ بتا دیا ہے کہ میرے پیارے محبوب کے اختیارات کو سمجھنا ہو تو دین کے معاملے میں ذرا غوطہ زنی کر کے دیکھو میرے پیارے خبیب کے اختیارات کھل کر سامنے آئیں گے پھر تم کو یہ بھی سمجھ میں آجائے گا کہ جس جگہ تمہارے اختیارات مغلون ج اور بے بس نظر آتے ہیں جب وہاں ان کے اختیارات کی یہ شان ہے تو جہاں تم باختیار نظر آتے ہو گے وہاں پر میرے محبوب کے اختیارات کی کیا شان ہو گی اسکا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو؟ پڑھئے درود پاک..... اللہم صل علی سیدنا محمد.....

رفیقان گرامی! اللہ کی تعلیم کے اسی اشارے کی وجہ سے صحابہ کرام کی زندگی کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہر مشکل، ہر ضرورت اور ہر مصیبت کے موقع پر بلکہ یہ تھا میں دشمنوں کے مقابلے میں دنیا کی حاجتوں آخرت کی ضرورتوں میں غرض کہ ہر موقع پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی فریادیں لیکر دوڑتے تھے اور ایک بار بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ اے لوگو! یہ کیا کر رہے ہو پہلے تم اپنی فریادیں لیکر ہوں کے پاس جاتے تھے اب بھی تم غیر اللہ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے چلے آتے ہو میرے آقانے کبھی بھی اپنے صحابہ کو اس طرح سے نہ کہا بلکہ میرے آقا ان کی ضرورتیں پوری کر کے ان کے اس عقیدے کو اور استحکام عطا کرتے تھے۔

نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا
ساتھ ہی منشئی رحمت کا قلمدان گیا

اسی لئے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ "إِنَّا أَنَا قَالِمْ وَاللَّهُ يُعْطِي" (۱) اے میں اللہ کی نعمتوں کو بانٹا کرتا ہوں اور اللہ دیتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ دین تو اللہ کی عطا ہے مگر اللہ کی عطا میں بغیر میرے ہاتھ کے کسی کو نہیں مل سکتی ہیں۔ اسی لئے تو میرے آقانے یہ فرمایا کہ میں ہی بانٹتا ہوں "انما أنا قاسم" میں ہی بانٹتا ہوں اور اسی سے ہم نے یہ سمجھا۔

آسمان خواں زمین خواں زمانہ مہماں

صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا

اسی لئے صحابہ گرام رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی ضرورتیں لیکر آ رہے ہیں۔ یہ لیجھے "ختاری شریف جلد اول کتاب العلم" میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور اسی میں دوسری جگہ باب المجزات میں امام ختاری نے بھی اس حدیث کو تخریج کیا۔ جو اس طرح ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں بہت زیادہ سنائے تھے مگر اس کے باوجود میں حدیثیوں کو بھول جایا کرتا تھا۔ ایک بار بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپکی حدیثیں بہت سنائے تھے ہوں۔

مگر سب بھول جایا کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا کہ تم خمیرہ گاؤں زبان استعمال کرو۔ اور خمیرہ اکبر یشم استعمال کرو، یا کسی ڈاکٹر کی طرف رجوع کرو، کسی معالج کی طرف رجوع کرو بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ہیں "أَبْسُطْ مُرْدَائِكَ" (۱) اے ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ، حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر پھیلاؤ دی چادر پھیلانے کا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیوں حکم دیا؟ اسی لئے تو حکم دیا کہ ابو ہریرہ آج میں جو دوں گاؤہ اتنا ہو گا کہ تمہاری مٹھیوں میں نہ سما سکے گا تمہارے دامن میں نہ آ سکے گا تمہاری جھوٹی میں نہ آ سکے گا۔ اسلئے اپنی پوری چادر پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر پھیلاؤ دی۔ اور میرے آقا صلی

(۱) ختاری جلد اول کتاب المناقب باب سوال المشرکین ان ۵۱۳-۵۱۵

الله تعالى عليه وسلم نے اپنے دونوں خالی ہاتھوں کو ملا کر چادر میں انڈیل دیا اور فرمایا "ضَمَّةُ إِلَى ضَدْرِكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ" (۱) ابو ہریرہ اپنی چادر سمیٹ کر اپنے سینے سے لگالو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے چادر کو اپنے سینے سے لگالیا اور اسکے بعد میرے سینے کے اندر وہ انقلاب برپا ہوا ہے کہ "مَانَسِيَّتُ بَعْدَ شَيْئًا سَمْفُطَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" (۲) اس روز سے لے کر آج تک رسول پاک سے سنی ہوئی کوئی حدیث بھی نہ بھولا۔ میں یہ ترجمہ نہیں کرتا ہوں کہ میں رسول اللہ کی ایک حدیث نہ بھولا یہ غلط ہے۔ اس لئے کہ حدیث میں یہ فرمائیا "مَانَسِيَّتُ بَعْدَ شَيْئًا" اس روز سے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی ہوئی چیز میں سے کچھ نہیں بھولا ایک زبردستیک زیر بھی نہیں بھولا۔

ایک لفظ نہیں بھولا، انداز بیان تک نہیں بھولا، نشیب و فراز تک نہیں بھولا، یہ شان ہے سر کار کی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خزانہ علم بھی دے رہے ہیں اور قوت حافظہ بھی عطا کر رہے ہیں عنایات و عطیات کا انداز بتا رہا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسا با اختیار بتا دیا ہے اور یہ بھی تو دیکھیں کہ عطا کا انداز کیا ہے؟ میرے آقا کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے اور ابو ہریرہ کی چادر میں بھی کچھ نظر نہیں آتا مگر عطا میں وہ ہیں کہ سمجھان اللہ اب ابو ہریرہ یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ نہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نظر آیا اور نہ میری چادر میں کچھ نظر آیا تو میں کس لئے اس کو سینے سے لگاؤں؟ کیوں نہیں کہتے یہ؟ اس وجہ سے کہ ابو ہریرہ جان رہے ہیں کہ

رسول اللہ کی عطاوں کیلئے نظر آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بلکہ رسول جمال پر ظاہری چیزوں کو تقسیم فرماتے ہیں وہیں باطنی چیزوں کو بھی تقسیم فرماتے ہیں۔ آج لوگوں میں جھگڑا ہے کہ رسول غیب جانتے تھے کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جانتے کی بات بعد میں کر لینا یہاں یہ دیکھو کہ رسول غیب جانتے ہیں کہ نہیں اس طرح غیب تقسیم فرماتا ہے ہیں کہ ابو ہریرہ بھی لے رہے ہیں اسی لئے ہم کہا کرتے ہیں۔

مالک کو نہیں ہیں گوپاس کچھ رکھتے نہیں
دو جمال کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ دست کرم والی عطا میں ہیں
اور اس طرح کی دست کرم کی عطاوں کا وہ سیل روایاں آپ کو نظر آئے گا کہ ایمان میں تازگی اور عقیدے میں بالیدگی پیدا ہو جائیگی آئیے حدیثوں کا ذرا اگر بھی نظر سے مطالعہ کیجئے تو سمجھ میں آجائیگا اور عطاوں کا انداز بھی الگ الگ نظر آیا گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مردی ہے جسکو ابو داؤد، ابن ماجہ اور ترمذی وغیرہ نے تخریج کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ کو یہیں کا قاضی اور جسٹس بنادیا اور فرمایا کہ علی تم یہیں جاؤ اور وہاں پر لوگوں کے اختلافات اور مقدمات کے فیصلے کرو۔

حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک نوجوان آدمی ہوں "وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ كَثِيرًا مِنَ الْقُضَاءِ" (۱) میں قضا و جنم کے نشیب و فراز کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا ہوں۔ یا رسول اللہ جب مجھے زیادہ نہیں معلوم ہے مہارت نہیں ہے تو مجھے یہ عمدہ کیوں عطا کیا جا رہا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ

(۱) ابن ماجہ ابواب الحکام ص ۱۶۷ ابو داؤد و کتاب الفتناء ص ۵۰۳

یار رسول اللہ یہ عمدہ ایسا عمدہ ہے کہ جس کیلئے تجربہ کار آدمی کا انتخاب کیا جائے۔ میرے آقانے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اے علی ہم یہ صلاحیت نہیں رکھتے ہو لہذا تم کو عمدہ نہ دیکروں سے کو دیدیتا ہوں بلکہ میرے آقانے ان کے سینے پر ایک گھونسا لگایا۔ اور فرمایا "اللَّهُمَّ إِهْدِ قَلْبَيْهِ" (۱) اے اللہ ان کی رہبری فرماء حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں "فَمَا شَكُنْتُ بَعْدَ فِي قَضَاءِ بَيْنِ إِثْنَيْنِ" (۲) اس روز سے آج تک مجھ کو کبھی کسی معاملے میں کوئی شک نہ ہوا۔ اور مشکل سے مشکل مسئلہ در پیش ہوا مگر میں نے اسکو آسانی کے ساتھ حل کر دیا۔ بات کیا ہے کہ میرے آقانے علی کے سینے پر جو گھونسا مارا تو سینے کے اندر علم کا سمندر موج مارنے لگا عطاوں کا یہ انداز۔ اللہ اکابر! اس لئے ہم کہا کرتے ہیں :

کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہئے
دینے والا ہے سچا ہمارا نبی

یہاں ہم آپکو ایک نکتے کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے طلبہ کو سبق یادنہ ہونے کے موقع پر کبھی ایک آدھ تھپڑا اور ایک آدھ گھونسا لگادیتے ہیں مگر اس کا نتیجہ یہ نظر آتا ہے کہ جو یاد ہو وہ بھی غائب ہو جایا کرتا ہے۔ مگر بارگاہ مصطفیٰ کی شان عجیب و غریب نظر آرہی ہے کہ علی کو جوبات معلوم نہ تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھونسے میں ان کو اس کا علم عطا کر دیا جوان کو معلوم تھا وہ تازہ ہو گیا اور جو نہیں معلوم تھا وہ بھی معلوم ہو گیا جیسا کہ حضرت علی خود کہتے ہیں کہ "فَمَا شَكُنْتُ بَعْدَ فِي قَضَاءِ بَيْنِ إِثْنَيْنِ" تھے کہ اس کے بعد سے لیکر آج تک

(۱) ابو داؤد کتاب القضاء ص ۵۰۳
(۲) ابن ماجہ ابواب الاحکام ص ۱۶۷ مکمل الفتاوی

مشکل سے مشکل مقدمے میں مجھکو کوئی شبہ اور کوئی بھی وسوسمہ نہ ہو سکا۔

نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے
مرا تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست کرم کے توسط سے علم قضاء کا وہ خزینہ بے پایاں عطا فرمایا کہ حضرت علی کے بارے میں سارے صحابہ کو اپنی جگہ پر اعتماد تھا۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منصب قضاء میں ایک امتیازی شان عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب مشکل سے مشکل مقدمہ آجاتا اور حضرت علی نہ ہوتے تو اس وقت وہ اللہ کی پناہ مانگتے "کَانَ عُمَرَ أَبْنُ الْخَطَّابِ يَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ مَعْضُلَةٍ لَيْسَ فِيهَا أَبُو حَسِينٍ" (۱) اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بھی یہ احساس تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست کرم کے توسط سے ان کو خزینہ علم اور قضاء میں وہ ممتاز عطا فرمادی ہے کی حضرت علی سارے صحابہ میں امتیازی شان رکھتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ یہ امیر المومنین عمر فاروق ہیں جن کا وبدبہ علمی اور جن کی شوکت تدبیر کا آج تک سکھ چل رہا ہے اپنے تو اپنے جو غیر ہیں وہ بھی ان کی علمی و سمعت فکری قوت کے معرف ہیں۔ اور حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس عطا یے مخصوص کا یہاں پر اعلان کر رہے ہیں۔ حضرت علی کے بارے میں منصب قضاء کی خصوصیت کا اعتراف کرتے ہیں۔ پڑھئے درود پاک

اللهم صلی علی سیدنا ..

علم کی عطا میں تو اس طرح میرے آقا کی بارگاہ سے بہت سارے صحابہ کرام کو ملی ہیں۔ میں یہاں پر جستہ جتنے چند حدیثوں کے ذریعے سے آپکو تھوڑے سے وقت میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں ہر قسم کی عطاوں کو تقسیم فرمایا کرتے تھے چنانچہ میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بخاری شریف کتاب المغازی سے نقل کر کے بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پر سارے صحابہ کرام میں اعلان فرمادیا تھا کہ اے صحابہ! تم خندق کو تیار کرو مدینے کے گرد خندق تیار ہونے لگی سارے صحابہ اس میں لگ گئے۔ اور حضرت سیدنا جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ خندق کے پنج میں ایک لمبی چوڑی بڑی ہی سخت چٹان پڑ گئی صحابہ اسکو توڑتے توڑتے تھک گئے اور جب ہر طرح سے عاجز آگئے تو بارگاہ رسالت میں اگر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک ایسی زبردست چٹان پنج خندق میں پڑ گئی ہے کہ اگر ہم اس کو نہ توڑنے کا ہمیں کوئی راستہ نہیں نظر آتا۔ غور کیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ہی جیسا بشر ہوں جب تم توڑنے سے عاجز آگئے تو میں کیا توڑوں گا۔ بلکہ میرے آقا کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد فرماتے ہیں چلو دکھاؤ وہ چٹان کماں ہے؟ میرے آقا خندق میں تشریف لائے اور وہ چٹان دیکھی حضرت جابر کرتے ہیں کہ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چٹان کے قریب تشریف لائے تیشہ اپنے دست کرم میں لیا اور ایک مرتبہ

مارا اس کے بعد حضرت جابر کے الفاظ میں سماعت کریں فرماتے ہیں
 "فَأَخَذَ الْمَعْوَلَ فَضَرَبَ فَعَادَ كَثِيرًا أَهْيَلَ أَوْ أَهِيمَ
 فَعَلَتْ يَارِسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا إِلَى الْبَيْتِ فَعَلَتْ لِمَدْرَأَيْ رَأْيَتْ بَالْبَيْتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءًا مَا فِي ذَلِكَ صَبَرَ" (۱)
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹان کے اوپر ایک تیشہ مارا تو پوری چٹان بالوں کی طرح اڑ گئی ریت بن گئی تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوؤں میں وہ قوت تھی کہ جمال پر سارے صحابہ کی قوتیں جواب دے جائیں وہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری تو انہیوں کے ساتھ سامنے آجاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہماری قوت وہاں سے شروع ہوتی ہیں جمال پر ساری قوتیں ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ اسلئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مارنے کا ایک اعجاز اس اعتبار سے بھی قبل غور ہے کہ ہم بھی جب کسی پتھر یا کسی اینٹ کو توڑا کرتے ہیں تو جس جگہ ہتھوڑا پڑتا ہے وہاں تو ریزے من جایا کرتے ہیں۔ مگر اس کے ارد گرد ریزے اور چھوٹے چھوٹے نکڑے نظر نہیں آتے ہیں۔ لیکن میرے آقا کا تیشہ چٹان پر ایک جگہ پڑا ہے اور پوری چٹان ریت بن گئی ہے۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میرے آقا کی ضرب جگہ کے اعتبار سے کام نہیں کرتی ہے بلکہ جمال تک کہ نیت فرماتے ہیں وہاں تک کام کرتی ہے اُنکے ارادوں کے اعتبار سے کام ہوتا ہے یہ قوت جس کو ملتی ہے وہ صاحب اختیار ہو جایا کرتا ہے اللہ کی طرف سے اس کی یہ شان ہوا کرتی ہیجہ سارا کام ارادے کے اعتبار سے ہوتا چلا جاتا ہے خیر آگے بڑھنے اور باتیں سننے حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیشہ بلند کیا تو جو چادر اور ٹھیک ہوئے

(۱) خدی جلد عالیٰ کتاب المغازی باب غزوۃ الخندق ص ۵۸۸

تھے وہ چادر بھی ہاتھوں کے ساتھ اور اٹھ گئی۔ یعنی ہاتھ اٹھتے ہی چادر بھی اٹھ گئی جس سے شکم مبارک کھل گیا حضرت جابر دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کیوجہ سے شکم اطہر پر پھر باندھ رکھا ہے اور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا "فَلَمْ أَصِيرْ عَلَى نَفْسِي" (۱) مجھے اپنے دل پر قابو نہ رہا یہ دو جہاں کے مالک ہمارے آقا رسول ہمارے سردار اور وہ بھوکے رہیں اور ہم لوگ بھر پیٹ کھانا کھا کر آئیں کہتے ہیں کہ میں بے قرار ہو گیا اور گھر دوڑا گیا اور جا کر اپنی بیوی سے کہا "هُنَّ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ" گھر میں کھانے کی کوئی چیز ہے؟ ان کی بیوی نے کہا کہ کوئی چیز تو نہیں ہے ہاں گھر کے اندر صرف ایک سیر جو ہے اور بھری کاچھ مینے کاچھ ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی کھانا ایسا نہیں ہے کہ جس سے دعوت کا اہتمام کیا جاسکے انہوں نے کہا کہ "رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ مَا فِي ذِلِّكَ صَبْرًا" (۲) خدا کی قسم آج میں نے رسول پاک کی بھوک کا وہ عالم دیکھا ہے کہ مجھے اپنے دل کے اوپر قابو نہیں ہے۔ رسول اللہ نے بھوک کیوجہ سے اپنے شکم مبارک پر پھر باندھ رکھا ہے میں چاہتا ہوں کہ آج رسول پاک کی ضیافت کر دی جائے۔ آج رسول پاک کو گھر کھانے پر مدعا کیا جائے ان کی بیوی نے کہا کہ اب یہی تو کھانے کا کل سامان ہے جس سے اہتمام ہو سکتا ہے۔ حضرت جابر نے کہا میں بھری کے پچھے کوڈھ کر تاہوں اور تم چکی سے آتا تیار کرو وہ آتا تیار کرنے لگیں اور خود حضرت جابر نے بھری کے پچھے کوڈھ کیا ذبح کر کے بوٹیاں تیار کیں پھر بیوی کے سامنے گوشت کی بوٹیاں لا کر رکھ دیں۔ اور کہا جلد تر کھانا تیار کرو۔ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (۱) خاری جلد عالیٰ کتاب المغازی باب غزوة الخندق ص ۵۸۹ (۲) خاری جلد عالیٰ ص ۵۸۸

کومیدان جنگ سے بلا کر لاتا ہوں۔

جب حضرت جابر ادھر جانے لگے تو انکی بیوی نے کہا کہ ذرا انھرو! وہاں پر مجمع لگا ہے سارے صحابہ کا مہاجرین و انصار کا تم زور سے دعوت دو گے تو بہت سارے لوگ آجائیں گے۔ اور رسول پاک بھی بہت سارے لوگوں کو لے لیں گے۔ اسلئے ذرا سنبھل کر دعوت دینا "فَقَالَتْ لَا تَفْضُحُونِي بِرَسُولِ اللَّهِ وَبِمَنْ مَعَهُ" (۱) میری فضیحت نہ ہو جائے میری رسولی نہ ہو جائے کہ جب کھانے کا اہتمام نہ تھا تو دعوت کا انتباہ انتظام کیوں کیا گیا اسلئے انہوں نے کماذرا سنبھل کر کے دعوت دینا جابر کے ایک طرف تو بیوی کا حکم تھا وہ سری طرف واقعہ کھانا بھی کم تھا اس لئے وہ چیکے سے جا کر رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ! میں نے تھوڑا سا کھانے کا انتظام کیا ہے۔ آپ تشریف لا لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سناؤ اعلان کر دیا "فَقَالَ يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُورًا فَحَىٰ هَلَا بِكُمْ" (۲) اے خندق کے صحابہ چلو چلو جابر کے گھر دعوت ہے۔ سمجھن اللہ اب جابر کا حال عجیب و غریب ہو گیا۔ سوچنے لگے کہ ایک طرف تو بیوی ناراض ہو گی اور دوسری طرف واقعی کھانا بھی کم ہے اب کیا ہو گا وہ اپنے اندر گھبر اہٹ محسوس کرنے لگے۔ اور گھبر اہٹ میرے آقائی نظر سے پوشیدہ نہ رہ سکی سمجھن اللہ..... وہ نبی جو فرماتے ہیں "إِنَّ أَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِي كَمَا أَرَاكُمْ أَمَامِي" (۳) میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی تم کو اسی طرح

(۱) خاری جلد عالیٰ کتاب المغازی باب غزوة الخندق ص ۵۸۹ (۲) خاری جلد عالیٰ ص ۵۸۹

(۳) خاری جلد اول ص ۱۰۲

دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھتا ہوں وہ پیارے نبی جو فرماتے ہیں "اَمَا لَا
يَخْفَى عَلَى رُكُوعُكُمْ وَخُشُوعُكُمْ" (۱) سنو سنو! تمہارے رکوع
کا حال میرے اوپر چھپا نہیں ہے اور رکوع تو رکوع ہے دل کا خشوع بھی چھپا
نہیں ہے جو نبی دل کی گمراہیوں میں پوشیدہ راز کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا وہ جابر
کے دل کی گھبرائہت کو نہیں محسوس کرتے ہو نگے یقیناً وہ دیکھ رہے ہیں۔
اسلنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے جابر!
دوڑ کر گھر جاؤ جب تک میں تمہارے گھرنے پہنچوں اسوقت تک چولئے پر
روٹی نہ ڈالی جائے اور اس وقت تک گوشت کی ہانڈی چولئے سے نہ اتاری
جائے۔ توجہ حضرت جابر دوڑے ہوئے گھر گئے رسول پاک سید عالم صلی
اللہ علیہ وسلم کا پیغام تو ابھی اپنی جیب میں رکھے ہوئے ہیں اور بیوی سے کہتے
ہیں ارے بیوی غصب ہو گیا "لَقَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُهَاجِرِينَ
وَالْأَنْصَارِ" (۲) رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے مهاجرین
سارے انصار کو لیکر تشریف لارہے ہیں اب کیا ہو گا ان کی بیوی گرجا جھیں
کہتی ہیں تم نے بآواز بلند دعوت دی تھی؟ تم نے زور سے دعوت دی تھی؟
کہنے لگے ہر گز نہیں میں نے توبہت آہستہ سے دعوت دی تھی میں نے خفیہ
طور پر دعوت دی تھی اور یہ کہہ دیا تھا یا رسول اللہ کھانا بھی تھوڑا سا ہے اور
آپ چاہیں تو خود چلیں "وَمَعَكَ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ" (۳) اور آپ
کے ساتھ ایک دو آدمی چل سکتے ہیں زیادہ طفیلیوں کی گنجائش نہیں ہے یہ بھی

(۱) سمن جلد اول ص ۱۸۰

(۲) خاری جلد ثالثی کتاب المغازی باب غزوۃ الخندق ص ۵۸۹

(۳) اینسا

میں نے صراحت کر دی تھی تو ان کی بیوی کہتی ہیں جب یہ تم نے کہہ دیا تو
پھر اتنے آدمی کیسے آرہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں جب میں نے
رسول پاک سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک سے دو طفیلیوں تک کی گنجائش
ہے تو رسول پاک نے اعلان کر دیا اے خندق کے صحابہ چلو چلو جابر کے گھر
دعوت ہے۔ جابر کی بیوی کہتی ہیں کہ جب مالک دارین نے اعلان کیا ہے تب
کیا گھبرانے کی بات ہے تم نے رسول اللہ کو دعوت دی ان کو تم کھلانا رسول
اللہ نے اپنے صحابہ کو دعوت دی ہے وہ اپنے صحابہ کو کھلانے میں گے تم اور ہم
کیوں گھبرا میں رسول پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کے
بارے میں ذرا ایک مدینے کی عورت کا عقیدہ دیکھو ایک صحابی کی عورت کا
عقیدہ دیکھو کہ ان کی نظر میں رسول کس طرح صاحب اختیار ہیں اور ایک
وہاں کے وہاںی مرد کا عقیدہ ذرا سنوہ کہتا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز
کا مختار نہیں معاذ اللہ ذرا سوچو تو ایک صحابی کا وہ عقیدہ اور ایک وہاںی کا یہ عقیدہ
میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بر اواہ اچھا مگر یہ کہے بغیر میں نہ رہو گا کہ اپنے
اپنے مقدر اور نصیب کی بات ہے کہ کوئی صحابی کے عقیدے پر چلا تو کوئی
وہاں کے طریقے پر چلا۔

بہر حال میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
ذریعات تو دیکھو کہ ایک طرف قوت بازو وہ ہے کہ سارے صحابہ مل کر
جمال پر چڑان توڑنے سکے میرے آقانے وہ چڑان توڑ دی ہے اور ایک طرف یہ
ہے اختیار کہ تھوڑا سا کھانا ہے اور سیر بھر جو بنے نہ جانے اس میں کتنی بھروسی
نکلی کتنا بھوسا نکلا اور اس سے روٹی بنی پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ

علیہ وسلم نے کتنے صحابہ کو دعوت بھی دیدی اوس سب کھاؤ؟ حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو لیکر میرے گھر پہنچے اور پہنچنے میں بالجہ میرے آقانے فرمایا جابر دکھاؤ کمال پر آٹا گوندھا ہوا رکھا ہے۔ اور کمال پر گوشت کی دیکھی ہے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں لا یار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آئے کے قریب آگر اپنا لعاب دہن نکالا آئے پر لگادیا فرمایا اے جابر یہ آٹا پھر گوندھ دیا جائے کیوں پھر سے گوندھا جائے؟ اسلئے کہ رسول پاک کے لعاب دہن کی برکت آئے کے ذرے ذرے میں پہنچ جائے اور پھر میرے آقانے فرمایا کہ کمال ہے گوشت کی دیکھی؟ وہاں تشریف لائے لعاب دہن نکالا گوشت کی دیکھی میں ڈال دیا اور فرمایا جابر ان دونوں کو چھپا دو اور جب بھی ضرورت پڑے نکالا جائے لیکن جھانک کے اندر نہ دیکھا جائے کہ کتنا رہ گیا اور کتنا خرچ ہوا یہ کچھ بھی نہ دیکھا جائے ضرورت کے مطابق بغیر جھانکے ہوئے نکالا جائے حضرت جابر کہتے ہیں ایسا ہی کیا گیا اور رسول پاک نے یہ بھی فرمادیا جابر روثی بنانے کیلئے محلے کی عورتوں کو بلا لواس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگرچہ وہ آٹا تھوڑا ہی ہے مگر لعاب دہن کی برکت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ وہ آٹا اگر صرف جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بغیر رسول پاک کے لعاب دہن کے ملے ہوئے پکانا چاہتیں تو چند منٹ میں پکا کے فرست پا جاتیں مگر اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لعاب دہن اس میں مل گیا ہے تو ضرورت کے مطابق اگرچہ میرے آقانے یہ فرمایا کہ محلے کی عورتوں کو بلا لایا جائے مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر سارے مدینے کی عورتیں جٹ کر کے اس آئے کو ختم کرنا چاہتیں تو لعاب دہن کی برکت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی تھی اور صحابہ ہیں کہ

قطار درقطار بیٹھے چلے جا رہے ہیں اور گرم گرم روٹی اور تازہ تازہ بیٹھی چلی آ رہی ہے اور کھاتے چلے جا رہے ہیں سارے صحابہ و مهاجرین و انصار کما کر فارغ ہو گئے جابر فرماتے ہیں "حتیٰ شیعُوا وَبَقَیَّا" یہاں تک کہ سارے کے سارے صحابہ فارغ ہو چکے ہیں اور اسکے بعد محلے بھر میں ہم نے کھانا تقسیم کیا وہ سر ادن آ کیا ہم سب لوگوں نے کھانا کھایا محلے میں کھانا تقسیم کیا گیا تیر ادن آ کیا پھر بھی کھانا ہے کہ ختم نہیں ہو رہا ہے ہم لوگوں نے بھی کھایا اور محلے بھر میں تقسیم کیا اب یہاں پر ذرا سوچنے کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ جو آٹا ہمارے یہاں ایک دن سے دوسرے دن کی سرحد میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ استعمال کے قابل نہیں رہتا آنا اسوقت تک کھٹا ہو جاتا ہے اور اسی میں خیر اس طرح اٹھ جاتی ہے کہ اسکی بیو اور اسکی لذت اس کو استعمال کے قابل نہیں رہنے دیتی اور اسی طرح جو کھانا باسی ہو جاتا ہے وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا مگر لعاب دہن کی برکت کیا پہنچ گئی ہے کہ جب کھاؤ تازہ تازہ نوبہ نواس کا ذائقہ ملتا ہے اس سے سمجھ میں آیا کہ میرے آقا کو اللہ نے وہ اختیار دیا ہے اور اسکے لعاب دہن میں وہ برکتیں ودیعت کر رکھی ہیں کہ اگر اس نیت سے میرے آقا کسی چیز میں شامل کر دیں تو جمال اس کی تازگی باقی رہے وہیں اصل شئی بعینہ قائم رہے کیا اس سے میرے آقا کا اختیار نہیں ہو رہا ہے؟ یقیناً یہ بات کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ میرے آقا صاحب اختیار بھی ہیں صاحب اقتدار بھی ہیں

پھر اسکے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تین دن ہو گئے مگر ہم لوگوں کے کھانے کھلانے کا سلسہ منقطع نہ ہوا تیرے دن میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اب کتنا باقی رہ گیا ہے؟ ذرا دیکھ تو لیا جائے

جاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے چینی بڑھ گئی اور انہوں نے کھول کر کے گوشت کی دیکھی دیکھی لباب بھری ہوئی اور آٹے کا برتن کھول کر دیکھا تو جتنا تھا اتنا ہی اب تک موجود ہے کہتے ہیں حضرت جابر کہ رات آتے آتے سارا گوشت ختم ہو گیا اور سارا آٹا بھی ختم ہو گیا تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ تین دن سے ہم لوگ کھارہ ہے تھے اور کھلارہ ہے تھے ختم ہونے کا نام و نشان نہ تھا، مگر میں نے کل اسکو کھول کر دیکھ لیا تو رات آتے آتے سارا کھانا ختم ہو گیا۔

میرے آقادر کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جابر! اگر تم نے اسکو کھول کر نہ دیکھا ہوتا "لَا كَلْتُمْ مُدَى الدَّهْرِ" تو زندگی بھر تم اسکو کھاتے رہتے۔ سبحان اللہ! جابر نے رسول پاک کے پیٹ کے پتھر کو تودیکھ کر یہ سوچا ہو گا کہ آج رسول پاک کی دعوت کر کے میں رسول اللہ کو آسودہ کروں گا۔ مگر رسول پاک نے جابر کو یہ سبق دیدیا۔ کہ اے جابر!

کون دیتا ہے دینے کو منھ چاہئے
دینے والا ہے سچا ہمارا نبی

تم سمجھ رہے تھے کہ ہم رسول پاک کو کھلائیں گے مگر سنوتم نے ایک مرتبہ ہماری دعوت کی ہے اور ہم نے تمہارے لئے زندگی بھر کے کھانے کا انتظام فرمادیا ہے۔ اس سے میرے آقادر کائنات یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جابر تم ہمارے پیٹ کا پتھر دیکھ رہے تھے مگر بازوؤں کی قوت نہیں دیکھی کہ تم سارے آسودہ حال صحابہ نے جب چنان کو توڑنا چاہا تو عاجز آگئے

پھر جب ہم نے اسکو ایک ہی ضرب میں چکنا چور کر دیا تب بھی تمہاری سمجھ میں نہ آیا کہ بھوکا نبی ہے مگر قوت کی یہ شان ہے اور جب آسودہ ہو گا تو کیا ہو گا مگر میں تمہیں حقیقت یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول پاک چاہے آسودہ ہوں چاہے بھوکے ہوں طاقت کے اندر کمی نہیں آسکتی ہے۔ اسلئے کہ میرے آقا کی طاقت کا دار و مدار کھانے پر نہیں ہے بلکہ کھانے کی عزت کا مدار میرے آقا کے تناول فرمانے پر ہے حضور اس لئے نہیں کھایا کرتے تھے کہ قوت فراہم ہو۔ اسی لئے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم "إِنَّمَا

يُطْعِفُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي" (۱) اے لوگو! تمہیں کھانے پینے سے قوت فراہم ہوتی ہے۔ مگر میرا پروردگار بغیر کھانے پینے مجھ کو وہ قوت عطا کر دیتا ہے۔ جو لوگوں کو کھانے پینے سے ملا کرتی ہے۔ میرے آقانہ کھائیں تو میرے آقا کی قوت پر کوئی اثر نہیں پڑا کرتا ہے۔ پیٹ پر پتھر تو میرے آقا نے اپنے صبر و قناعت کو ظاہر کرنے کیلئے باندھا تھا۔ اسی لئے تواعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔

کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا
اس شکم کی قناعت پہ لا کھوں سلام

تو میرے رسول رحمۃ العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کائنات کو آسودہ فرمادے ہیں آپ کو کوئی آسودہ نہیں کر رہا ہے بلکہ میرے آقانے اگر

(۱) خاری جلد اول کتاب الصوم بباب الوصال ص ۲۲۳

مسلم جلد اول کتاب الصیام ص ۳۵۲

ترمذی شریف جلد اول ص ۱۶۳۔ باب ائمہ عن الوصف

کسی کے گھر دعوت کھانی تو اسکو عزت عطا فرمانے کے لئے کھانے کو عزت عطا فرمانے کے لئے اسکے گھر کو عزت تھنے کیلئے اور محض اسی لئے میرے آقار رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کی دعوتوں کو قبول فرمایا کرتے تھے اسلئے نہیں کہ لوگوں کی دعوتوں کے وہ محتاج تھے دوسرا طرف میرے آقا نے اپنا لاعب دہن اسکے کھانے میں شامل کر کے اس بات کی طرف نشان دہی کر دی کہ اے جابر سنو سنو! وہ رسول کسی کے کھانے کا کیا محتاج ہو سکتا ہے جو رسول تھوڑے کھانے میں اتنی برکتیں انڈیل سکتا ہے کہ فوج در فوج لوگ کھار ہے ہیں مگر اس کے باوجود بھی وہ کم نہیں ہو رہا ہے اور اس کا ذائقہ بھی نہیں بدلتا ہے وقت گزر تاجار ہا ہے۔ جابر! تم زندگی بھر اسکو کھاتے اگر تم نے اسکو کھول کر دیکھا نہ ہوتا اس سے میرے آقا یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جابر! تم اپنی زندگی کے کسی بھی حصے میں کھاتے ہمیشہ تازہ ہی پاتے کبھی محسوس بھی نہ ہوتا کہ گوشت باسی ہے یا روٹی باسی ہے۔ اور یہ میرے آقا اشارہ فرمائے ہیں کہ جابر ہماری عطاویں کی یہ شان ہے کہ جب ہم اپنے خزینہ غیب سے تقسیم کرنے پر آتے ہیں تو لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے اور ہم دیتے چلے جاتے ہیں اسی لئے ہم نے تم کو تنبیہ کر دی تھی کہ کھول کر نہ دیکھنا کیونکہ غیب اس لئے نہیں ہوتا ہے کہ اسکا معاملہ کیا جائے اور تم اس کے معاملے میں لگ گئے اس لئے غیب تم سے او جھل ہو گیا، غیب تم سے غائب ہو گیا..... بیر حال! میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے آقار رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ تھوڑے کو بھی بہت زیادہ کر دیا کرتے ہیں اسی لئے تو اعلیٰ

حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں :

ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا
موج بحر سخاوت پہ لا کھوں سلام

آئیے اس موقع پر ایک اور حدیث آپ حضرات کو سناؤں خاری شریف (۱) کتاب الرقاد باب عیش النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واصحابہ میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کئی روز ہو گئے مجھے کھانے کیلئے کوئی چیز نہ مل سکی میرا حال خراب ہونے لگا آنکھوں کے سامنے اندر ہیر اچھا نے لگا اب میں یہ بھی تو نہیں کر سکتا تھا کہ کسی سے بھیک مانگوں اسلئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیک مانگنے سے، ہم لوگوں کو منع کر دیا تھا آخر کار ایک حیلہ میری نظر میں آیا کہ چلور استے کی نکڑ پر کھڑے ہو جائیں گے اور وہاں سے کوئی گذرتا ہو اجب میرے اداس چھرے پر نظر ڈالے گا میری مر جھائی شکل کو دیکھے گا تو مجھ سے حال پوچھے گا اور میں کھدوں گا کہ کئی روز سے کھانے کو نہیں ملا ہے وہ خود خود میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے جائیگا اور کھانے کو دے گا بھیک بھی مانگنی نہ پڑے گی اور اپنی ضرورت بھی پوری ہو جائیگی کہتے ہیں کہ میں چلا اور راستے کے نکڑ پر کھڑا ہو گیا سب سے پہلے جو صاحب میری نظر کے سامنے سے گزرے وہ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اگے بڑھ کر سلام کیا السلام علیکم ورحمة اللہ انہوں نے نظر جھکائے جھکائے و علیکم السلام کہا میں نے آگے بڑھ کر کے پوچھا کہ حضور! یہ آیت کس طرح ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ آیت مجھے یاد تھی مگر میرا مقصد یہ تھا کہ شاید جواب دیتے وقت میرے اداس

(۱) خاری جلد ثانی کتاب الرقاد باب کیف کان عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ ص ۹۵۵

چھرے پر نظر ڈالیں اور میری پریشانی کو محسوس کریں اس طرح میرے کھانے کا انظام بھی ہو جائے گا اور بھیک مانگنے سے جاؤں گا مگر انہوں نے مراقبہ کے انداز میں نظر جھکائے رکھی۔

اور نگاہ یخے کئے ہوئے آیت بتا کر آگے بڑھ گئے۔ مجھے دھکالا گیا اللہ! میں جو مقصد لیکر یہاں راستہ پر حاضر ہوا تھا وہ مقصد بھی پورا نہیں ہوا تھے میں دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق تشریف لارہے ہیں میں نے آگے بڑھ کر کما السلام علیکم انہوں نے بھی نظر جھکائے جھکائے و علیکم السلام کما میں نے سوچا کہ ان سے بھی وہ آیت کیوں نہ پوچھ لوں تاکہ وہ میرا چڑھ دیکھیں لیں جب ان سے وہ آیت پوچھی تو انہوں نے بھی نظر جھکائے جھکائے جواب دیا اور آگے بڑھ گئے اب تو مجھے اور زیادہ دھکالا گا کہ میرا مقصد یہاں بھی پورا نہیں ہوا اگر اتنے میں دیکھتا کیا ہوں کہ رحمۃ للعابین شفع الذین امیں المشتاقین تشریف لارہے ہیں رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر میری باخچیں کھل گئیں میں نے عرض کی السلام علیکم یا رسول اللہ رسول پاک نظر اٹھا کر فرماتے ہیں و علیکم السلام اے ابو ہریرہ یہ تمہارا چڑھ مر جھایا ہوا کیوں نظر آرہا ہے سجحان اللہ جس ادا سے ابو ہریرہ نے مدعا پیش کیا اسی ادا سے ہاتھ پکڑا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دولت کدہ پر تشریف لائے حضرت عائشہ ام المؤمنین کے گھر میں تشریف لے گئے فرماتے ہیں کہ اے عائشہ کھانے کا کوئی سامان ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا میں، دو مینے سے تو چولہا نہیں جلا ہے کھانے کا سامان کیا ہو گا یا رسول اللہ ہاں ابھی ابھی ایک انصاری نے دودھ کا پیالہ بھیجا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو وہی بہت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ دودھ کا پیالہ

لے کر آئے اور اس کو لئے ہوئے جوں ہی اندر وون خانہ سے باہر آئے حضرت ابو ہریرہ کی باخچیں کھل گئیں مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے اصحاب صفت ہیں بلوں والوں کی ضیافت ہو جائے انہوں نے کہا کہ میری طبیعت پریشان ہو گئی کہ کیا ہو گا؟ نہ جانے کتنے لوگ وہاں موجود ہوں اور کیسے ہمارا کام ہو گا کس طرح سے ہماری ضرورت پوری ہو گی؟ فرماتے ہیں مگر میں کیا کرتا رسول پاک نے حکم دیا تھا اس لئے سارے اصحاب صفت کو بلا کر لے آیا اور جب بلا کر لایا تو میں سوچ رہا تھا کہ کیس پلانے کی ذمہ داری مجھے نہ دیدیں کیونکہ حضور نے فرمایا ہے "سَاقِي الْقَوْمُ أَخِرُهُمْ شَرُبًا" (۱) جو ضیافت کا بوجھ اپنے کا نہ ہے پر لے گا اس کا نمبر سب سے اخیر میں لگے گا اس لئے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے چھپتا تھا مگر رسول اللہ نے آواز دی ابو ہریرہ آگے آگے آیا رسول اللہ نے فرمایا سب کو ایک لائن میں بٹھا دو پھر تم پلانا شروع کرو میں نے پلانا شروع کر دیا پھر یکے بعد دیگرے ستر صحابہ دودھ پی چکے اور پھر اس کے بعد جب میں دیکھتا ہوں کہ پیالہ ویسے ہی دودھ سے لباب بھرا ہوا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ پیالہ بڑھا دیوں کہ خود پیکوں، ایمان کھتا ہے کہ رسول پاک کو پیش کروں بھوک کھتی ہے پہلے خود پیو بھوک اور ایمان کی جنگ میں ایمان غالب آگیا میں نے رسول اللہ کو وہ پیالہ پیش کر دیا رسول پاک نے مسکرا کر پیالہ میری طرف بڑھا دیا "فَقَالَ اشْرَبْ فَشَرِبَتْ" (۲) اے ابو ہریرہ تم پہلے پیو میں نے پی لیا پھر رسول پاک کی طرف بڑھا دیا اور پیو ابو ہریرہ اس لئے کہ تم بہت دیر سے انتظار کر رہے ہو کئی روز کے بھوکے ہو رسول پاک

(۱) ترمذی جلد ثانی کتاب الرقائق ص ۹۵۵
(۲) میزاری جلد ثانی کتاب الرقائق ص ۱۱

صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر پھر پینا شروع کیا پھر بڑھایا پھر حضور نے فرمایا اور پیو پھر میں نے پیا اور بڑھایا پھر فرمایا اور پیو اب کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ میرے ہاتھ سے نہیں لیا میں نے کمایا رسول اللہ اب تو اتنا پی لیا ہے کہ ایک قطرے کی گنجائش نہیں ہے اب اس کے بعد رسول پا ک نے بھی نوش فرمایا اعلیٰ حضرت اس حدیث کا ترجمہ ایک شعر میں اس طرح کرتے ہیں۔

کیوں جناب یوہریہ کیسا تھا وہ جام شیر
جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے منه پھر گیا

آج بات کھل کر سامنے آگئی کہ صحیح حدیثوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا وہ امند تا ہوا سند رہے ہے کہ جس کو کوئی سمیٹنا چاہے تو سمیٹنا دو بھر ہو جائے۔

بھر حال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کا اختیار کلی دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لئے بھجا تھا کہ اگر ہماری قدرت اور ہمارے اختیارات کو کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو میرے محظوظ کے اختیارات کو دیکھے۔ ان کے تصرفات کو دیکھے تو میری قدرت خود مخود سمجھ میں آجائے گی۔

میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا
دریا بھادیئے ہیں ذریبے بھا دیئے ہیں
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين



جہاں پانی عطا کر دیں بھری جنتِ ہبہ کر دیں
نبی مختارِ کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں

حضور تاجِ اشرفیہ دامت برکاتہم علیہ
